



سوال

(31) جنوں کا دادا کون تھا؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حضرت انسان کے دادا حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ مگر جن کے دادا کون ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں کہیں ان کا ذکر ہے؟ السائل: بشارت اللہ انصاری معرفت عبدالصمد انصاری اسے ایچ گارمنٹ سورہہ جی گپاؤنڈ ٹی پی ہائیٹیکہ ممبئی

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جنوں کا دادا کون تھا؟ اور جن کس کی نسل ہیں؟ اور ان کے مورث اعلیٰ کا نام کیا تھا؟ یہ کسی معتبر یا ضعیف روایت سے بھی احقر کو نہیں معلوم ہو سکا۔

البتہ آیت: ”وخلق الجنان من نار،، (الرحمن: 15) میں ”الجنان،، کی تفسیر میں مفسرین صرف اتنا لکھتے ہیں: ”خلق الجنان آی و ہوا بیس، وقیل الوبجن غیر ایس، وقیل نفس الجن آی ہذا الجنس یعنی خلق جنس الجن،، (الجمل حاشیہ تفسیر الجلالین طبع السند 298/4) ہذا ما ظہری والعلم عند اللہ


الملا عبید اللہ الرحمانی المبارکشوری 18/12/1410/12/7/1990ء (نور توحید جھنڈا نگر اپریل 1999ء)

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ شیخ الحدیث مبارکشوری

جلد نمبر 1

صفحہ نمبر 101



محدث فتویٰ